

میرج لائسنس کیلئے درخواست دینا

شادی (قانونی یا مذہبی) کی تقریبات منعقد کرنے سے پہلے میرج لائسنس کا حصول لازمی ہے۔

اس کے لیے آپ کو ایک میرج لائسنس درخواست فارم لازمی طور پر مکمل کرنا ہو گا اور اس پر شادی کے فریقین کو دستخط بھی لازمی کرنا ہوں گے۔ درخواست فارم کو لازمی طور پر شادی کے فریقین کے اصلی تائیدی کاغذات کے ساتھ جمع کرانا ہو گا۔ تائیدی کاغذات میں شامل ہو سکتے ہیں شناختی دستاویزات، طلاق کے کاغذات (اگر قابل اطلاق ہو) اور دستاویزات کا ترجمہ (اگر قابل اطلاق ہو)۔

فیس

\$150.00

شناختی دستاویزات کی شرائط

شادی کے فریقین میں سے دونوں کو کم از کم اپنی دو عدد شناختی دستاویزات لازمی جمع کرانا ہوں گی۔ درخواست دہندگان کو لازمی طور پر درج ذیل چیزیں فراہم کرنا ہوں گی:

- فہرست 1 میں مذکور شدہ شناختی دستاویزات میں سے کوئی 1 چیز اور فہرست 2 میں مذکور شدہ دستاویزات میں سے بھی کوئی 1 چیز، یا
- فہرست 1 میں سے کوئی 2 شناختی دستاویزات

دستاویزات میں سے کم از 1 پر تازہ ترین تصویر کا موجود ہونا لازمی ہے۔ صرف فہرستوں میں درج شدہ دستاویزات ہی قابل قبول ہوں گی۔

تمام دستاویزات اصلی اور قابل قبول (یعنی معیاد ختم نہ ہو) ہونا لازمی ہیں۔ فراہم کردہ دونوں دستاویزات پر پہلا نام، آخری نام اور تاریخ پیدائش ایک جیسی ہونی چاہیے۔ شناختی دستاویزات کی فوٹو کاپیاں قبول نہیں کی جائیں گی۔

فہرست 1 - پرائمری آئی ڈی	فہرست 2 - سیکنڈری آئی ڈی
<ul style="list-style-type: none"> * پیدائشی سرٹیفیکٹ * کینیڈا کی شہریت کا کارڈ * حالیہ، قابل قبول پاسپورٹ * کینیڈا میں بطور امیگرینٹ پہنچنے کا ریکارڈ * حکومت کینیڈا کی قابل قبول ریفیوجی دستاویز (بمعہ تصویر) 	<ul style="list-style-type: none"> * کینیڈا کی شہریت کا سرٹیفیکٹ * کسی بھی ملک کی شہریت کا کارڈ * ڈرائیونگ لائسنس * حکومت کا جاری کردہ فوٹو کارڈ * دائمی ریزیڈنٹ کارڈ
<p>* اگر دستاویزات انگریزی زبان میں نہ ہوں، تو اصلی دستاویزات کے ہمراہ کینیڈا کے کسی سرٹیفائیڈ ٹرانسلیٹر سے حاصل کردہ تحریری انگریزی ترجمہ بھی لازمی مہیا کرنا ہو گا۔ سرٹیفائیڈ ٹرانسلیٹرز آپ کو ایسوسی ایشن آف ٹرانسلیٹرز اینڈ انٹریپرٹرز آف اوٹیریو سے مل سکتے ہیں۔</p>	

نابالغ

ایسے درخواست دہندگان جن کی عمر 16 اور 17 سال ہو، ان کے لیے والدین کی اجازت لازمی ہو گی۔ والدین/سرپرست، دونوں کو ایک فارم لازمی طور پر مکمل کرنا ہو گا اور اس پر دستخط کرنا ہوں گے۔ فارم ہمارے دفتر میں دستیاب ہیں۔

ترجمان

لائسنس کے درخواست دہندہ (دہندگان) کے لیے لازمی ہے کہ وہ انگریزی زبان اچھی طرح بول اور پڑھ سکتے ہوں یا بصورت دیگر ان کے ساتھ ترجمان کا ہونا لازمی ہے۔

ترجمانوں کو اپنی شناخت ثابت کرنا ہو گی اور انہیں ایک اقرار نامہ بھی مکمل کرنا ہو گا۔

طلاق یافتہ یا طلاق دہندہ درخواست دہندگان کے لیے

کینیڈا میں ہونے والی طلاق: طلاق کے سرٹیفیکیٹ کی اصلی دستاویز یا عدالت کی جاری کردہ مستند شدہ نقل درکار ہو گی۔ فوٹو کاپیاں، فیصلے یا طلاق کے حکم نامے قابل قبول نہیں ہوں گے۔

بیرون ملک ہونے والی طلاق: لائسنس جاری ہونے سے پہلے، صوبہ اونٹاریو کی جانب سے جاری کردہ فارن ڈائورس آتھورائزیشن کا حاصل کرنا لازمی ہے۔ لائسنس کے لیے درخواست دیتے وقت درخواست دہندگان کو فارن ڈائورس آتھورائزیشن لازمی طور پر فراہم کرنا ہو گا۔ مزید معلومات ہمارے دفتر اور سروس اونٹاریو سے دستیاب ہے۔
